

اسٹیٹ بینک نے خصوصی افراد کے لیے رعایتی قرضوں کی سہولت کا اعلان کر دیا

بینک دولت پاکستان نے خصوصی افراد کے لیے اسمال انٹرپرائز قرضوں اور قرضے پر ضمانت کی رعایتی سہولت کا اعلان کر دیا۔ گورنر جناب طارق باجوہ نے یہ اعلان خزانہ، محصولات اور اقتصادی امور پر قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ کے ساتویں اجلاس منعقدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیا۔ اس موقع پر مجلس قائمہ کے ارکان اور اسٹیٹ بینک کے سینئر ایگزیکٹوز بھی موجود تھے۔

جناب طارق باجوہ نے کہا کہ ملک میں معذوری میں مبتلا افراد کی مشکلات، اور ان کے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا احساس کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے ترجیحی شعبے کی ترقی کو پیش نظر رکھ کر خصوصی افراد کے لیے ایک اسکیم پر نظر ثانی کی ہے۔ سالانہ 5 فیصد رعایتی شرح پر قرضے کی اس سہولت سے اسمال انٹرپرائز کے زمرے میں آنے والے خصوصی افراد کو قرضے تک رسائی بہتر ہونے کی توقع ہے۔ اسکیم کے تحت بینک اور ترقیاتی مالی ادارے نئے کاروباری ادارے بنانے کے لیے یا پہلے سے قائم اداروں کی توسیع کے لیے خصوصی افراد کو قرضے کی سہولت دیں گے۔ اسٹیٹ بینک ان افراد کو دیے گئے قرضے کے 100 فیصد کے مساوی ری فنانس بینکوں اور ترقیاتی مالی اداروں کو فراہم کرے گا۔ خصوصی افراد زیادہ سے زیادہ پانچ سال کے لیے، جس میں چھ ماہ کی رعایتی مدت بھی شامل ہوگی، 1.5 ملین (15 لاکھ) روپے تک قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک اسکیم کے تحت دیے گئے واجب الادا قرضوں پر بینکوں اور ترقیاتی مالی اداروں کو 60 فیصد رسک کوریج بھی دے گا۔ قرضے کی اس سہولت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں خصوصی افراد کے سماجی و معاشی حالات بہتر بنائے جائیں۔